



سوال

قبروں والی مساجد میں نماز

جواب

قبر والی مسجد میں نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ایسی مساجد میں نماز ہو سکتی ہے جہاں قبریں ہوں؟ جیسے اب پاکستان میں ہر تیسری بریلوی مسجد میں قبریں موجود ہیں۔؟ الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد! سائلین سے گزارش ہے کہ ایک ای میل میں صرف ایک ہی سوال بھیجا کریں، اور دوسرے سوال کے لئے دوسری ای میل کریں، اس لئے ہم یہاں آپ کے صرف ایک ہی سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسی مساجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مساجد بنانے والوں کو ملعون قرار دیا ہے اور قبروں پر مساجد بنانے سے قبروں پر اور قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ جناب بن عبد اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان سے سنا۔ انہوں نے کچھ باتیں ذکر کیں: "کہ جو تم سے پہلے تھے (یہود و نصاریٰ) وہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد میں بنالیتے تھے خبر دار تم قبروں کو مسجد نہ بنانا میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں"۔ (رواہ مسلم (۵۳۲) ابوداؤد) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد میں بنالیا۔ (بخاری (۳۹۰۰) مسلم (۵۲۹۹) حذاما عندی واللہ اعلم بالصواب فتویٰ کمیٹی محدث فتویٰ